

Maulana Azad National Urdu University

Department of Management

M.B.A. III Semester Examination - November/December - 2015

PAPER 304 - Strategic Financial Management (Major)

Time : 3 hrs

Marks : 70

حصہ الف

2 X 10 = 20

1. تمام سوالات کے جواب مطلوب ہیں۔ ہر سوال کا جواب 50 الفاظ سے زائد نہ ہو۔

(a) مالیاتی حکمت عملی (Financial Strategy) کیا ہے؟

(b) زر کی مدتی قیمت (Time Value of Money) پر مختصر نوٹ لکھیے۔

(c) Break Even of EBIT سے کیا مراد ہے؟

(d) ROCE کیا ہے؟

(e) Financial Indifference Point کیا ہے؟

(f) Vertical Merger کی کیا تعریف ہے؟

(g) Sell-off کے کیا معنی ہیں؟

(h) Demerger کا کیا مطلب ہے؟

(i) Interest Rate Risk کیا ہے؟

(j) Default Risk کا کیا مفہوم ہے؟

حصہ ب

5 x 10 = 50

2. تمام سوالات کے جواب مطلوب ہیں۔ ہر سوال کا جواب 200 الفاظ سے زائد نہ ہو۔

(a) روایتی مالیاتی انتظامیہ (Traditional Financial Management) اور حکمت عملی مالیاتی انتظامیہ (Strategic Financial Management) میں فرق (Difference) کو تفصیل سے بتائیے۔

یا

(b) ذیل میں موجود معلومات کی مدد سے فرم کی قدر (Value of Firm) کو محسوب کیجیے Discounted Cash Flow Approach کو استعمال کیجیے۔

فروخت (Sales) = 1,50,00,000 روپے

منافع (EBIT) = 50,00,000 روپے

سرمادی اخراجات (Capital Expenditure) = 12,00,000 روپے

فرسودگی (Depreciation) = 5,00,000 روپے

کار سرمایہ (Working Capital) = 20% of Sales

شرح نمو (Growth Rate) = 8%

مدت (Time Period) = 3 years

 K_d = 12% K_e = 18%

D/E = 1:1

Discount Cash Flow Approach کو استعمال کیجیے۔

- (a) .3 XYZ Ltd کا Expected EBIT = Rs 1,50,000 ہے جب کہ $K_e = 12.5\%$ ہے۔ اس فرم کے پاس Rs. 5,00,000 بطور Debt موجود ہے۔ جس پر سود کی شرح 8% ہے۔ فرم کی قدر (Value of Firm) کو اور سرمایہ کی لاگت (Cost of Capital) کو محسوب کیجیے۔
- Case I ← اگر Debt میں Rs. 2,00,000 کا اضافہ ہو۔
Case II ← اگر Debt میں Rs. 2,00,000 کی کمی ہو۔
Net Income Approach کو استعمال کیجیے۔

یا

- (b) حسب ذیل معلومات کی مدد سے Financial Indifference Point کو محسوب کیجیے۔ X Ltd ایک نئے پراجیکٹ کو شروع کرنا چاہتی ہے۔ جس کے لیے اسے Rs 1,50,00,000 کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس دو متبادل موجود ہے۔

1. All equity @ Rs. 150 per share.
2. D/E as 2:1 and rate of interest as @ 9%

- (a) .4 کمپنیاں آپس میں کیوں Merge ہوتی ہے۔ تفصیل سے وضاحت کیجیے اور Mergers کے مختلف اقسام (Types) کو مثالوں سے سمجھائیے۔

یا

- (b) کمپنی A اور کمپنی B کی مالیاتی معلومات اس طرح ہے۔ فرم کی قدر (Value of Firm) اور Post-Merger Gains کو معلوم کیجیے۔

Particular	Company A (Acquiring Firm)	Company B (Target firm)
Equity Capital	9,00,00,000	3,60,00,000
No. of Shares	4,50,000	3,60,000
EAT	1,80,00,000	54,00,000

- (a) .5 موجودہ کاروباری دور میں Joint Venture کی اہمیت (Importance) پر تفصیلی روشنی ڈالیے اور مثالوں کو پیش کیجیے۔

یا

- (b) Corporate Governance کے کیا معنی ہیں؟ اس کی اہمیت (Importance) کو واضح کیجیے۔

- (a) .6 خطرہ (Risk) کی مختلف ماہرین نے الگ الگ تعریف کی ہے؟ وضاحت کیجیے اور اس کے کوئی دس (10) اقسام (Types) کو لکھیے۔

یا

- (b) کسی بھی کاروباری کو خطرہ سے نمٹنے کے لیے کن طریقوں (Methods of Dealing with Risk) کو اختیار کرنا پڑتا ہے؟ تفصیل سے وضاحت کیجیے۔